

اللّٰہ عوامِ الحجّ

مع ترکیب اردو

خوبی ختیر ترین کتاب جس میں علم خوب کے
تمام عوامل کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے

مؤلف

مولانا مشتاق احمد چرھاولی رحمہ اللہ

مکتبہ البشیر
کراچی - پاکستان

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُغْفِرَةً لِذَنبِي
وَمُؤْمِنًا بِعِدْهِ وَمُتَبَّعًا بِحُجَّتِهِ

مع ترکیب اردو

خوکی مختصر ترین کتاب جس میں علم خو
کے تمام عوامل کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے

مؤلف

مولانا مشتاق احمد چرھاولی رحمۃ اللہ علیہ



کتاب کا نام :	بعلوب التجھ
مؤلف :	مولانا مشتاق احمد چرھاولی رحمۃ اللہ علیہ
تعداد صفحات :	۲۰
قیمت برائے قارئین :	= ۲۰ روپے
اشاعت اول :	۱۳۳۴ھ / ۲۰۱۵ء
اشاعت جدید :	۱۳۳۲ھ / ۲۰۱۴ء
ناشر :	مکتبۃ البشری
مددھری محمد علی جیریشل مرسٹ (رمسٹر) کرامی پاکستان	
Z-3، اووسیز بگلوز، گلستان جوہر، کراچی۔ پاکستان	
+92-21-37740738 :	فون نمبر
+92-21-34023113 :	فیکس نمبر
www.maktaba-tul-bushra.com.pk :	ویب سائٹ
www.ibnabbasaisha.edu.pk	
al-bushra@cyber.net.pk :	ای میل
+92-321-2196170 :	ملنے کا پتہ
دارالإِحْلَاصُ، نزد قصہ خوانی بازار، پشاور۔ 92-91-2567539	
+92-91-2567539 :	مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ۔
+92-321-4399313 :	مکتبۃ الحرمین، اردو بازار، لاہور۔
+92-42-7124656, 7223210 :	المصباح، ۱۲۔ اردو بازار، لاہور۔
+92-51-5773341, 5557926 :	بلک لینڈ، شی پلازہ کالج روڈ، راولپنڈی۔

اور تمام مشہور کتب خانوں میں دستیاب ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

حاماً و مصلياً و مسلماً

عوامل النحو دو منظوم

معروف به نفس نظم

از حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب چر تھاولی ﷺ

ہے خدا کی ذات ہی بس لاکن حمد و شنا
علم اپنے فضل سے کرتا ہے جو ہم کو عطا
مسخر نعمت ہیں پھر حضرت خیر الرسل
جن کے نور علم سے سارا جہاں ہے پُر خیا
ہو سلام ان پر ہمیشہ اور درود بے حساب
آل اور اصحاب پر بھی جو تھے اہل اتنا
آیا ہوں درگاہ میں یا رب تیری باصد نیاز
اور کرتا ہوں یہ تجھ سے عرض اپنا مددعا
ہو جہاں میں سب طرف مقبول یہ نظم نفس
فیض پائیں طالبان علم اس سے جا بجا
برزبان اس کو جو کرے علم ہو اس کا فزروں
اور عبارت پڑھنے میں اس کے یہ کام آئے سدا

نحو کے عامل اور ان کے اقسام

نحو میں ہیں ایک سو عامل یہی فرمائے گئے

شیخ عبد القادر جرجانی پیر بدی
 صرف دو ہیں معنوی ان میں سے باقی لفظی ہیں
 پھر ہوئے لفظی ساعی اور قیاسی بے خطاء
 ایک اور نوے ساعی ہیں قیاسی سات جان
 پھر ساعی کی ہیں تیرہ قسم بے چون وچرا
پہلی قسم

قسم پہلی حرف جو سترہ ہیں ان کو یاد رکھ
 زیر دیتے ہیں ہمیشہ اسم کو یہ اے فتا
 باوَ تاؤَ کاف و لام و واو مند و مذ خلا
 رُبُّ، حاشا، من، عدا، في، عن، على، حتى، إلى
دوسرا قسم

إنْ و آنْ کائَنَ لیتَ لکنْ لعلَّ
 اسم کے ناصب ہیں یہ رافع خبر کے دامما
تیسرا قسم

قسم ثالث ما و لا ہیں جو ہیں ثانی کے خلاف
 اسم کے رافع ہیں یہ ناصب خبر کے ہیں سدا
چوتھی قسم

واو یاوَ همزہ و إلا أیا اور أي هیا
 اسم کے ناصب ہیں ساتوں حرف یہ اے مقتدا

پانچویں قسم

آن و لن پھر کی إذن ہیں یہ حروف ناصبه
کرتے ہیں منصوب مستقبل کو بے روئے و ریا

چھٹی قسم

إن و لم لَمْ و لام إِمْر و لَائِنْي بُجَى
 فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا

ساتویں قسم

قسم هفتم فعل کے نو اسم جازم ہیں سنو
پانچ ان میں سے ہیں من مهما متی إذما و ما
پھر چھٹا ای کو جانو ساتوال ہے حیثما
آٹھواں آنی کو سمجھو اور نواں ہے اینما

آٹھویں قسم

دیتے ہیں اسم منکر کو نصب یہ چار اسم
جبکہ ہو تمیز وہ اسم منکر بر ملا
پہلا ہے لفظ عشر جب وہ أحد سے ہو ملا
تسع و تسعین تک یہی رہتا ہے حکم ان کا سدا
ثانی وہ کم جو ہو استفہام ہی کے واسطے
پھر کائیں تیرا ہے اور چوتھا ہے کذا

نویں قسم

نوہیں بس اسمائے افعال ان میں رافع تین ہیں
دو ہیں ہیهات اور شتان تیرا سرعان ہوا
چھ ہیں ناصب دونک بلہ علیک حیہل
پھر رویدا اور ہا کو یاد رکھ اے با وفا

دسویں قسم

فل ناقص تیرہ جو عامل ہیں مثل ما ولا
اسم کے رافع ہیں اور ناصب خبر کے دائما
کان، صار، أصبح، أمسى وأضحى، ظل، بات
مابرِح، مادام مَا لَنْفَك، لیس ہے اور ما فتی
ایسے ہی ما زال پھر افعال نکلیں ان سے جو
ہے وہی ان کا عمل جو اصل تیرہ کا لکھا

گیارہویں قسم

جو ہیں افعال مقارب مثل ناقص ان کو جان
چار ہیں وہ أُوشَك کادَ كرب دیگر عسی
دیتے رفع اسم کو ہیں اور خبر کو وہ نصب
ہے یہی ان کا عمل تو یاد کر اس کو سدا

بارہویں قسم

سات افعال یقین و شک تو کر اس میں نہ شک
 کرتے ہیں منصب اسموں کو بے روئے وریا
 ہیں علمتُ اور رأیتُ اور وحدتُ اور زَعْمَتُ
 پھر حَسِبَتُ اور خلتُ اور ظَنَنَتُ بے خطأ
 تین پہلے ہیں یقین کے واسطے تو کر یقین
 اور تین آخر کے ہیں شک کیلئے پیشک والا
 درمیان شک اور یقین کے ہے جو فعل مشترک
 ہے زَعْمَتُ درمیان چھ کے جو ہے اوپر لکھا
 نام ہے ساتوں کا افعال قلوب اے دلببا
 کہتا ہوں جو دل سے میں اسمیں تو اپنا دل گا

تیرہویں قسم

چار فعل مدح و ذم ہیں رافع اسمائے جنس
 اور وہ ہیں بئس ساء اور نعمَ حَبَّذا
 بئس ساء ہیں برائے ذم بچو ان سے مدام
 تاکہ دنیا اور عقبی میں تمہارا ہو بھلا
 ہیں برائے مدح نعم حَبَّذا اے جانِ من
 پس کرو تم فعل قابل مدح کے صحیح و مسا

قیاسی عامل

اسم فاعل اور مصدر ہیں قیاسی اے عزیز

اسم مفعول و مضارف و فعل ہے پھر مطلقاً
اور صفت کا صیغہ مثل اسم فاعل اس کو جان
ہفتم اسم تام ہے ناصب ہے جو تمیز کا
معنوی عامل

دو ہیں عامل معنوی ان کو بھی سنتے جائیے
اک مضارع میں ہے اور ہے مبتدا میں دوسرا
عامل ناصب وجازم کا نہ ہونا لفظ میں
رفع کرتا ہے مضارع کو ہمیشہ اے فتا
خالی ہونا مبتدا کا عامل لفظی سے بھی
کرتا ہے مرفع دائم مبتدا کو مشتقاً

درخواست دعا

عرض ہے باصد ادب یہ عاجز مشتاق کی
ان سے جو اس نظم سے پورا اٹھائیں فائدہ
واسطے میرے دعا اللہ سے وہ چہ کریں
اس کے ناظم کو خدا یا دے تو توثیق رضا
اور عطا فرماء تو ایسا شوق تبلیغ علوم
کہ اسی دہن میں رہے مشغول وہ صح و مسا
ہاں غنائے قلب بھی اس کو خدا یا کر نصیب
یا کسی کی بھی نہ وہ پروا کرے تیرے سوا
حاسدیں کیسے ہی گرچہ درپے آزار ہوں
لیک استقلال میں اس کے نہ فرق آئے ذرا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 جار مجرور متعلق اشرع صفت أول صفت ثانٍ
 الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام
 مبتدأ موصوف مضاف إليه مبتدأ مبتدأ معطوف عليه معطوف
 على سيدنا ومولانا محمد وآلـه وأصحابـه أجمعـين.
 معطوف عليه معطوف تـاكـيد

اعلم أن العوامل في النحو مائة، لفظية ومعنوية، فاللفظية
 فعل بافعال ذو الحال متعلق كائنة حال خبر أن معطوف عليه معطوف
 منها على ضربين: سماعية وقياسية، فالسماعية منها أحد
 متعلق ثابتة خبر
 وتسعون عاماً، والقياسية منها سبعة، والمعنىـة منها عـددان،
 تميـز تمـيز ذو الحال باحال مـبـتدـا خـبر ذو الحال باحال مـبـتدـا خـبر
 وتتنوع السـمـاعـيـة على ثلاثة عشر نوعـاً.
 فعل فاعل متعلق تـنـتوـع تمـيز باتمـيز مجرور

النـوعـ الأول

مـوصـوفـ باـصـفـتـ مـبـتدـاـ

حرـوفـ تـجـرـ الـاسـمـ فـقـطـ، وـهـيـ سـبـعـةـ عـشـرـ حـرـفـاـ، الـباءـ ..
 مـوصـوفـ مـفعـولـ مـبـتدـاـ تمـيزـ تمـيزـ مـبـتدـاـ

سيـدـنـاـ: [مضـافـ مضـافـ إـلـيـهـ سـيـدـنـاـ ومـولـانـاـ مـحـمـدـ معـطـوفـ عـلـيـهـ]
 ومـولـانـاـ: مضـافـ مضـافـ إـلـيـهـ سـيـدـنـاـ ومـحـرـورـ معـطـوفـ.
 وـآـلـهـ وأـصـحـابـهـ: معـطـوفـ أـوـرـ معـطـوفـ عـلـيـهـ مـلـكـ.
 كـرـمـتـبـوـعـ مـوـكـدـ، أـجـمـعـينـ تـاكـيدـ سـےـ مـلـكـ مـعـطـوفـ ہـوـاسـيـدـنـاـ وـمـولـانـاـکـاـ، مـعـطـوفـ مـعـطـوفـ عـلـيـهـ
 مـلـكـ كـرـمـرـوـرـ ہـوـلـ لـفـظـيـةـ: خـبرـ مـبـتدـاـ مـحـذـوفـ، ہـيـ. فالـفـظـيـةـ: ذـوـالـحالـ باـحالـ مـبـتدـاـ مـنـهـاـ: مـتـعلـقـ

كـائـنـةـ حـالـ. سـمـاعـيـةـ: خـبرـ مـبـتدـاـ مـحـذـوفـ، أـحـدـهـاـ. قـيـاسـيـةـ: خـبرـ مـبـتدـاـ مـحـذـوفـ، ثـانـيـهـمـاـ.

فالـسـمـاعـيـةـ: ذـوـالـحالـ باـحالـ مـبـتدـاـ. تـجـرـ: فعلـ، ضـميرـ هيـ فـاعـلـ. فـقـطـ: قـطـ اـسـمـ بـعـنـيـ اـنـتـهـ، فـاـ

حـرـ جـزاـ، تـقـدـيرـ اـسـكـيـ يـهـ: إـذـاـ جـرـتـ بـهـ الـاسـمـ فـانـتـهـ. تـرـكـيبـ يـهـ: إـذـاـ حـرـ شـرـطـ،
 جـرـتـ فعلـ باـفـاعـلـ، بـهـ حـرـ جـارـ، هـ مجرـورـ، جـارـ مجرـورـ مـلـكـ مـعـطـوفـ ہـوـاجـرـتـ کـےـ، الـاسـمـ
 مـفـعـولـ بـهـ، فعلـ اـپـنـےـ فـاعـلـ مـتـعلـقـ وـمـفـعـولـ بـهـ سـےـ مـلـكـ جـملـهـ فعلـیـہـ ہـوـکـرـ شـرـطـ ہـوـئـیـ.

للالصاق نحو: مررت بزيد. وللاستعانة، نحو: كتبت متعلق ثابت خبر مضاف فعل بافعال متعلق ثابت خبر مبتدأ الباء بالقلم. وللتعميل، نحو: **إِنْكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَادِكُمْ** العجل^١. وللمصاحبة، نحو: اشتريت الفرس بسرجه. وللتعدية، نحو: قوله تعالى: **ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ** وذهب^٢ بزيد. وللمقابلة، نحو: اشتريت العبد بالفرس. وللقسم، نحو: بالله لأفعل^٣ كذا. وللاستعطاف، نحو: ارحم بزيد. وللظرفية، نحو: زيد بالبلد. وللزيادة، نحو: قوله تعالى: **وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ**.

= ف حرف جزا انته امر حاضر، ضمير أنت اس میں مستتر اسکا فاعل، فعل فاعل ملکر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا ہوئی، شرط جزا ملکر جملہ شرطیہ ہوا۔ نحو: خبر مبتدأ مخدوف، مثالہ۔ باتخاذكم: مصدر مضاف اليه۔

نحو قوله ایخ: نحو مضاف، قول مضاف اليه مضاف، ذوالحال، تعالى فعل، اس میں هو مستتر و اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال ہوا، ذوالحال حال سے مل کر مضاف اليه ہوا مضاف کا، مضاف مضاف اليه مل کر قول ہوا، ذهب الله بنورهم جملہ فعلیہ ہو کر مقولہ ہوا، قول مقولہ مل کر مضاف اليه ہوا نحو کا، مضاف مضاف اليه مل کر خبر ہوئی مبتدأ مخدوف مثالہ کی، مثال مضاف، ه مضاف اليه، مضاف مضاف اليه مل کر مبتدأ ہوا۔ مبتدأ بخبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ولا تلقوا ایخ: فعل بافعال اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا۔ ترجمہ: اور نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو یعنی جانوں کو طرف ہلاکت کے۔

واللام للاختصاص، نحو: الحمد لله. وللزيادة، نحو: رددَ
 مبتدأ متعلق ثابت خبر مبتدأ متعلق مخصوص
 لكم. وللتعميل، نحو: جئتكم لإكرامك. وللقسم، نحو: لله
 أي رددكم مضاف متعلق أقسام
 لا يؤخر الأجل. وللمعاقبة، نحو: لزم الشر للشقاوة.

أي اللام للمعاقبة فاعل هو
 ومن، وهي لابتداء الغاية، نحو: سرت من البصرة إلى
 الكوفة. وللتبعيض، نحو: أخذت من الدرّاهم. وللتبيين،
 أي بعض الدرّاهم
 نحو: قوله تعالى: ﴿فَاجْتَبَبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأُوْثَانِ﴾.
 مبين جار محروم بيان
 وللزيادة، نحو: قوله تعالى: ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾.
 ومن للزيادة مضاف إليه
 وإلى لانتهاء الغاية في المكان، نحو: سرت من البصرة إلى
 الكوفة. وللمصاحبة، نحو: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا
 متعلق ثانٍ أي وللمساصبة جار محروم متعلق انتهاء
 أمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾، وقد يكون ما بعدها داخلاً في
 أي مع أموالكم

الله لا يؤخر إلخ: لام حرف جر، لفظ الله محروم، جار محروم ملکر متعلق «وأقسام كا، أقسام فعل
 اپنے فاعل آنہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قسم ہوا، لا يؤخر الأجل جملہ فعلیہ ہو کر
 جواب قسم ہوا، قسم جواب قسم مل کر جملہ انشائیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا۔ باقی ظاہر ہے۔
 لزم الشر إلخ: لازم پکڑا بدی کو واسطے انعام بد بختی کے۔ وللتبعيض: متعلق ثابت ہو کر خبر
 ہوئی مبتدأ محدود من کی۔ فاجتنبوا إلخ: پس پرہیز کرو قسم نایا کی سے کہ وہ بت ہیں۔
 وقد يكون إلخ: قد حرف تقليل، يكون فعل ناقص، ما موصول، بعد مضاف، ها مضاف
 اليه، مضاف بامضاف اليه ظرف ہو اوقع کا، وقع فعل بافاعل ہو اور ظرف سے ملکر صلة ہوا،
 موصول صلة ملکراسم ہو ایکون کا، داخلا اسم فاعل، فی حرف جار، ما اسم موصول، قبل =

ما قبلها، نحو: قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَاقِق﴾، وقد لا يكون ما بعدها داخلاً في ما قبلها،
نحو: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾.

وحتى لانتهاء الغاية في الزمان، نحو: نمت البارحة حتى
الصباح، وفي المكان، نحو: سرت البلد حتى السوق.
وللمصاحبة، نحو: قرأت وردي حتى الدعاء، وما بعدها
قد يكون داخلاً في حكم ما قبلها، نحو: أكلت السمكة
حتى رأسها، وقد لا يكون داخلاً فيه، نحو: نمت البارحة
حتى الصباح.

وعلى للاستعلاء، نحو: زيد على السطح، وعليه دين، وقد
تكون بمعنى الباء، نحو: مررت عليه، وقد تكون بمعنى في،
= مضاف هامضاف إليه مثال استعلاء حقيقي خير مقدم مبتدأ مؤخر
ما قبلها من جنس ما قبلها. ما بعدها: إن لم يكن ما بعدها
من جنس ما قبلها. قد يكون داخلاً: يكون باسم وخبر جملة فعلية خبرية هوـ.
عليه دين: مثال استعلاء مجازي.

نحو: قوله تعالى: ﴿لَهُوَ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ﴾ أي في سفر.

وعن للبعد والمحاوزة، نحو: رمي السهم عن القوس.

وفي للظرفية، نحو: المال في الكيس، ونظرت في الكتاب.

مثال ظرف حقيقي ضمير أنا فاعله مثال ظرف بجاري

وللاستعلاء، نحو: قوله تعالى: ﴿وَلَا أَصْلَبَنَّكُمْ فِي جُذُورِ النَّخْلِ﴾.

والكاف للتشبيه، نحو: زيد كالأسد، وقد تكون زائدة،

أي الكاف متعلق ثابت

نحو: قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمُثْلِهِ شَيْءٌ﴾.

ومذ ومنذ لابتداء الغاية في الزمان الماضي، نحو: ما رأيته

معطوف عليه با معطوف مبتدأ متعلق ابتداء موصوف صفت فعل با فاعل

مذ يوم الجمعة، وما ذهبت إليه منذ يوم الاثنين، وقد

مضاف مضاف إليه

تكونان يعني جميع المدة، نحو: ما رأيته منذ يومين.

أي مذ ومنذ مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه

ورب للتقليل، نحو: رب رجل كريم لقيت.

مبتدأ متعلق ثابت خبر صفت

والواو للقسم، نحو: والله لأشربن اللبن، وقد تكون يعني

قسم جواب قسم

رب، نحو: وعالم يعلم بعلمه.

مضاف إليه موصوف

ولأصلبكم: ضرورة على دونكم تم كبحور كثاخون پر۔ ليس كمثله شيء: اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ رب رجل: جار مجرور متعلق مقدم۔ والواو للقسم: وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر لا على الضمير. يعمل بعلمه: جمله فعلية هو كصرف، لقيت وجواب رب محذوف۔

والناء للقسم، وهي لا تدخل إلا على اسم الله تعالى،
نحو: تالله لأضرbin زيداً. وحاشا وخلا وعدا، كل واحد
منها للاستثناء، مثل: جاءني القوم حاشا زيد وخلا زيد
وعدا زيد.

متعلق أقسم جواب قسم
متعلق كاتبا حال مستثنى منه مستثنى

النوع الثاني

الحرروف المشبهة بالفعل، وهي تصب المبتدأ وترفع الخبر، وهي
ستة حروف: إنّ وآن، مثل: إنّ زيداً قائماً، وبلغني أنّ زيداً

موصوف صفت مبتدأ
موصوف متعلق مشبهة مبتدأ مفعول به مبتدأ
أحدها ثانية اسم إن

والناء للقسم: واضح هو كه قسم کے لئے جواب قسم ضرور ہوتا ہے پس اگر جواب جملہ اسیہ
ہو تو دیکھنا چاہیے کہ وہ مثبتہ ہے یا منفیہ، اگر مثبتہ ہے تو اس کو إن یا لام ابتداء سے شروع
کرنا واجب ہے، جیسے: والله إن زيداً قائماً اور والله لزيد قائم، اور اگر منفیہ ہے تو ما لاما اور إن
سے شروع کرنا چاہیے، جیسے: والله ما زيد قائم اور والله لا زيد في الدار ولا عمرو اور
والله إن زيداً قائم، اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہو تو مثبتہ کو لام اور قد سے شروع کیا جائے یا
فقط لام سے، جیسے: والله قد قام زيد اور والله لأفعلن کذا، اور اگر جملہ فعلیہ منفیہ ہے تو اگر
فعل ماضی ہے تو ما سے شروع ہو گا جیسے: والله ما قام زيد، اور اگر مضارع ہے تو ما يالا يال
سے شروع ہو گا، جیسے: والله ما أفعل کذا اور والله لا أفعل کذا اور والله لن أفعل کذا۔
وحاشا وخلا وعدا: معطوف معطوف عليه مل کر مبتدأ۔ كل واحد: مضاف بامضاف
اليه ذو الحال۔ للاستثناء: متعلق ثابت خبر۔ بلغني: جب یاۓ متکلم فعل ماضی یا مضارع سے
ملتی ہے تو یاۓ سے پہلے نون مکورہ زیادہ کرنا واجب ہے، جیسے کہ ضربین بضربي، اور چونکہ
یہ نون فعل کی حرکت کو قائم رکھتا ہے اس لئے اس کو نون و قایم کہتے ہیں۔ ان زیداً: جملہ
اسمیہ تاویل مفرد فاعل بلغ۔

منطلق. و **كأنّ**، وهي للتشبيه، نحو: **كأنّ زيداً أسد.**
 ثالثها **ولكنّ**، وهي **للاستدراك**، مثل: **غاب زيد ولكن بكرًا حبر**
 رابعها **حاضر، وما جاءني زيد لكن عمروًا جاءني.** خبر
 خبر

وليت، وهي للتميي، مثل: **ليت زيداً قائم.**
 خامسها

ولعل، وهي للترجي، مثل: **لعل السلطان يكرمي.**
 السادسها اسم خبر

النوع الثالث

موصوف باصفت مبتدأ

ما ولا المشبهتان بـ **ليس ترفعان الاسم وتنصبان الخبر،**
 معطوف عليه با معطوف متعلق مشبهتان مفعول به
 مثل: **ما زيد قائماً ولا رجل ظريفا.** خبر

للاستدراك: وهي لدفع التوهם الناشي من كلام المخاطب۔ **وما جاءني**: جب حروف مشبه ب فعل پر مادا خل ہوتا ہے تو ان کو عمل سے روک دیتا ہے، اس کو ما کافہ کہتے ہیں، جیسے: **إنما زيد منطلق**۔ وهي للترجي إخ: **تنى اور ترجى میں فرق یہ ہے کہ تنی تو ممکن اور غیر ممکن سب جگہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسا: ليت زيداً قائم، یہ ممکن کی مثال ہے، اور ليت الشباب يعود، یہ غیر ممکن کی مثال ہے، کیونکہ جوانی کا لوٹنا ممکن نہیں اور ترجی صرف ممکن کیلئے خاص ہے، پس یہ نہیں کہہ سکتے کہ: **لعل الشباب يعود**. خوب سمجھ لو۔**

لعل السلطان: تركيب: مثل مصاف، لعل حرف مشبه ب فعل، السلطان اسم، يكرم فعل مضارع اس میں ضمیر هو کی جو پھر تی ہے السلطان کی طرف وہ اس کا فاعل، نون و قایه، یا یئے مشتمل مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوئی لعل کی۔

النوع الرابع

حروف تنصب الاسم فقط، وهي سبعة أحرف: الواو، موصوف أحدها

وهي بمعنى مع، نحو: استوى الماء والخشبة. وإلا، وهي مضاف إليه فعلى فعل فاعل مفعول معه ثانية

للاستثناء، نحو: جاءني القوم إلا زيداً. ويا وهي لنداء مستثنى منه مستثنى ثالثها مضاف

القريب والبعيد. وأيا وهيا، وما لنداء البعيد. وأي رابتها خامسها سادسة

والهمزة المفتوحة، وما لنداء القريب. وهذه الحروف الخمسة سابعها

تنصب الاسم إذا كان مضافا إلى اسم آخر، نحو: يا عبد جزاء مقدم شرط مؤخر موصوف صفت

الله، وأيا غلام زيد، وهي شريف القوم، وأي أفضل مضاف

تنصب الاسم: جمله فعلية هو كـ صفت. فقط: إذا نصبت بها لاسم فانته. القريب والبعيد: معطوف عليه بـ معطوف مضاف إليه. لنداء البعيد: مضاف بـ مضاف إليه مجرور.

وهذه الحروف: [اشارة مشار إليه ملـ كـ مبتدأ] هذه اشارة، الحروف موصوف، الخمسة صفت، موصوف باصفت مشار إليه، اشارة بالمشار إليه مبتدأ، تنصب فعل مضارع، ضمير هي فاعل، الاسم مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے ملـ كـ جمله فعلية هو كـ جزاء مقدم ہوئی، إذا حرف شرط، کان فعل ناقص، اس میں ضمير هو پھرتی ہے اس کی طرف وہ اس کا اسم، مضافا اسم مفعول، إلى حرف جار، اسم موصوف، آخر صفت، موصوف باصفت مجرور ہوا جار مجرور ملکر متعلق ہوا مضافا کے، مضافا اپنے متعلق سے ملکر خبر ہوئی کان کی، کان اپنے اسم وخبر سے ملـ كـ جمله فعلية خبریہ هو كـ شرط مؤخر ہوئی، شرط جزاء ملکر خبر ہوئی، مبتدأ خبر ملکر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الخمسة: وهي يا وأيا وهيا وأي والهمزة المفتوحة.

ال القوم، وأَعْبَدَ اللَّهَ، وَتَرَفَعَ الاسم إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الاسم
فَعُلْ ناقصٌ اسْمٌ لَمْ يَكُنْ مُضافاً مُثِلُّ: يَا زَيْدُ، وَيَا رَجُلُ.
خَيْرٌ

النوع الخامس

موصوفٌ موصوفٌ با صفتٍ مبتدأ

حروفٌ تنصبُ الفعل المضارع، وهي أربعةٌ أحرفٌ: أَنْ
موصوفٌ صفتٌ مبتدأ خَيْرٌ
ولَنْ وَكَيْ وَإِذْنٌ، فَأَنْ لِلاستقبالِ، وَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى
الماضيِّ، نَحْوٌ: أَسْلَمْتَ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَأَنْ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ،
وَتُسَمَّى هَذِهِ مَصْدِرِيَّةٌ. وَلَنْ لِتَأْكِيدِ نَفْيِ الْمُسْتَقْبِلِ، مُثِلُّ:
فَعُلْ بِجَهْوَلِ نَابِ فَاعِلِ مَفْعُولِ ثَانٍ مِبْتَداً مَضَافٌ
لَنْ تَرَانِي. وَكَيْ لِلْسَبْبَيَّةِ، مُثِلُّ: أَسْلَمْتَ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ،
مِبْتَداً

فَإِنِّي لِلْإِسْلَامِ سَبِبٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ. وَإِذْنٌ لِلْجَوَابِ وَالْجَزَاءِ،
فَبَارَأَ عَلَى اسْمٍ موصوفٍ مضافٍ إِلَيْهِ مِبْتَداً معطوفٍ عَلَيْهِ معطوفٍ
مُثِلُّ: إِذْنٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ فِي جَوَابٍ مِنْ قَالَ أَسْلَمْتَ.

تنصب: جمله فعلية هو كر صفت. لن تراني: [تو هر گز مجھے نہ دیکھے کا] لن حرف ثني تاكيد، ترا
فعل مضارع، ضمير مخاطب أنت فاعل، نون و قايم، يائے متکلم مفعول به، فعل اپنے فاعل اور
مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ کی أَدْخُلِ إِلَّا: جملہ فعلیہ خبریہ معلمه۔ إذن تدخل إلخ:
مقولہ مقدم یقال محدوظ، تقدیری عبارت یوں ہے: یقال: إذن تدخل الجنة في جواب من
قال: أسلمت.

* * * *

النوع السادس

حروف تحزن الفعل المضارع، وهي خمسة أحرف: لم ولما
موصوف ضمير هي فاعل
ولام الأمر ولا النهي وإن، للشرط والجزاء، فلم تجعل
ذوالحال معطوف عليه معطوف مبتدأ
ال فعل المضارع ماضياً منفيّاً، مثل: لم يضرب بمعنى ما
مفعول أول مفعول ثانٍ صفت متعلق فعل تجعل
ضرب. ولما مثل لم، لكنها مختصة بالاستغراف، مثل: لما
مبتدأ مضاد مضاد إليه متعلق مختصة
يضرب زيد أي ما ضرب زيد في شيء من الأزمنة
حرف تفسير مبتدأ حرف بيان موصوف
الماضية. ولام الأمر، وهي لطلب الفعل، مثل: ليضرب.
صفت
ولما النهي، وهي ضد لام الأمر أي لطلب ترك الفعل،
مضاد مضاد إليه
مثل: لا يضرب. وإن، وهي تدخل على الجملتين، وتسمى
مبتدأ متعلق تدخل
الأولى شرطاً والثانية جزاءً مثل: إن تضرب أضرب.
مفعول ثانٍ

ال فعل المضارع: موصوف باصفت مفعول به للشرط إلخ: متعلق كائنا حالاً - مختصة: متعلق سے مل کر خبر لکن۔ وهي ضد لام الأمر: هي مبتدأ، ضد مضاد، لام مضاد اليه مضاد، الأمر مضاد اليه، يه سب مضاد مضاد اليه مل کر مفسر ہوا۔ أي حرف تفسير، لام حرف جار، طلب مضاد، ترك مضاد اليه مضاد، الفعل مضاد اليه، يه سب مضاد مضاد اليه مجرور، جار مجرور متعلق ثابت ہو کر تفسير ہوا۔ تفسير مفسر ملکر خبر ہوئي مبتداهي کي۔ مبتدا خبر مل کر جمله اسييه خبر یہ ہوا۔ وتسمى: مفعول مالم یسم فاعله۔ إن تضرب أضرب: شرط جزاء مل کر جمله شرطہ ہوا۔

النوع السابع

أسماء تجزم الفعل المضارع حال كونها مشتملة على معنى موصوف ضمير هي فاعل موصوف صفت مضاف اسم كون خبر كون إن، وهي تسمى **النحو: من وما وأيّ ومتى وأينما وأنّي**

ومهما وحيثما وإذما، فمن، نحو: من يكرمني أكرمه. وما، نحو: ما تشتري أشتري. وأيّ - وتلزمها الإضافة - مثل: أيهم يضربني أضربه. ومتى - وهو للزمان - مثل: متى تذهب أذهب. وأينما - وهو للمكان - مثل: أينما تمشي أمش. وأنّي - وهو أيضاً للمكان - مثل: أنّي تكون أكن.

النوع السابع: النوع موصوف، السابع صفت سے ملکر مبتدأ، أسماء موصوف، تجزم فعل مضارع ضمير هي فاعل، الفعل موصوف المضارع صفت سے مل کر مفعول به، حال مضاف، كون مصدر ناقص، ها اسم، مشتملة اسم فاعل، على حرف جار معنى مضاف إن مضاف اليه سے ملکر مجرور، جار مجرور ملکر متعلق مشتملة کے، اسم فاعل اپنے متعلق سے ملکر خبر ہوئی مصدر كون کی، كون اپنے اسم وخبر سے مل کر مضاف اليه ہوا حال کا۔ مضاف مضاف اليه مل کر مفعول فيه ہوا تجزم کا، تجزم فعل و مفعول به اپنے فاعل سے ملکر خبر ہوئی مبتدأ کی، مبتدأ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہوا۔

وهي تسمى: هي مبتدأ، تسمى أسماء مضاف اليه يا ضمير تمييز مل کر مبدل منه، من وما وأي آخر تك معطوف عليه مل کر بدل، بدل مبدل منه ملکر خبر ہوئی مبتدأ کی، مبتدأ خبر ملکر جملہ اسمیہ خبر یہ ہوا۔



ومهما - وهو للزمان - مثل: مهما تذهب أذهب. وحيثما
جمله معترضه مبتدأ

- وهو للمكان - مثل: حيالاً تقع أقعد. وإذا - وهو
جمله معترضه شرط مبتدأ جراء مفعوله

يستعمل في غير ذوي العقول - مثل: إذا تفعل أفعل.
جمله معترضه مضاف إليه مضاف خبر مبتدأ إذا

النوع الثامن

موصوف با صفت مبتدأ

أسماء تنصب الأسماء النكرات على التمييز، الأول: لفظ
مضاف خير هي فاعل موصوف صفت

عشر وعشرون إلى تسعين، إذا ركب مع أحد أو اثنين
متصل منهاجاً مفعول فيه ذوا الحال

إلى تسع، فإن كان المميز مذكراً فطريق التركيب في لفظ
متصل منهاجاً حال شرط مضاف إليه متصل تركيب

أحد وأثنان مع عشر أن تقول: أحد عشر رجلاً وأثنا
بتاويل مفرد خير بتذكرة الجرئين

عشر رجلاً، وإن كان مؤنثاً فتقول: إحدى عشرة امرأة
 فعل با فاعل قول تأنيث الجرئين

واثنتا عشرة امرأة،

عشر وعشرون: با معلومات مضاف إليه. أحد إلخ: معطوف عليه با معلومات مضاف
إليه. إذا ركب إلخ: [شمير هو راجع بسوئي عشر] تركيب: ركب فعل مجہول اپنے مفعول
مالیم یکم فاعله اور مفعول فيه سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہوا، اس کی خبر مذوف ہے، تقدیری
عبارت یوں ہے: إذا ركب لفظ عشرة مع أحد فینصب الاسم على التمييز، پس
فینصب الاسم جملہ فعلیہ ہو کر جزاً ہوئی، شرط وجاء مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔
طريق التركيب: طريق التركيب مبتدأ اور أن تقول خبر ہے۔

وطريق تركيب غيرهما إلى تسع مع عشر أن تقول في ذه الحال متعلق منها حال مفعول فيه المذكر، ثلاثة عشر رجلاً وأربعة عشر رجلاً إلى تسع عشر رجلاً، وفي المؤنث: ثلاث عشرة امرأة وأربع عشرة امرأة إلى تسع عشرة امرأة، وأما طريق التركيب في

الواحد والاثنين مع "عشرون" وأخواته إلى تسعين على
 مفعول فيه تركيب معطوف عليه معطوف متعلق منها متعلق ثابت خبر
سبيل العطف، فإن كان المميز مذكراً فتقول في تركيب
 قابرائے تفصیل
الواحد والاثنين لا في غيرهما: أحد وعشرون رجلاً واثنان
 عاطفة برائے تقی بتدکیر الجزء الأول

وطريق تركيب غيرهما: طريق مضارف، تركيب مضارف اليه، غير مضارف هما مضارف اليه سے مل کر ذه الحال، إلى حرف جار، تسع مجرور سے ملکر متعلق منها ہو کر حال ہوا، حال ذه الحال ملکر مضارف اليه ہوا طریق کا، طریق اپنے مضارف اليہ سے ملکر مبتدا ہوا، ان ناصبه، تقول فعل بافعال، في حرف جار، المذكر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو انتقول کا، تقول فعل بافعال اپنے متعلق سے ملکر جملہ فعلیہ ہو کر قول ہوا، ثلاثة عشر ممیز رجلاً تمیز سے مل کر معطوف عليه، او حرف عطف، أربعة عشر رجلاً معطوف با معطوف عليه ذه الحال، إلى حرف جار، تسع عشر ممیز، رجلاً تمیز، ممیز تمیز مل کر متعلق منها ہو کر حال ہوا، حال ذه الحال ملکر مقولہ ہوا، قول مقولہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

ثلاثة عشر: بتأنيث الجزء الأول وتذکیر الجزء الثاني. ثلاث عشرة: بتدکیر الجزء الأول وتأنيث الجزء الثاني. في الواحد والاثنين: في حرف جار، الواحد معطوف عليه، او حرف عطف، الاثنين معطوف، معطوف عليه با معطوف مجرور ہوا، جار مجرور مل کر متعلق ہوا "تركيب" کا۔

وعشرون رجلاً، وإن كان المميز مؤنثاً فتقول: إحدى
 شرط
 بتأنيث الجزء الأول
 وعشرون امرأة واثنتان وعشرون امرأة، وفي تركيب غير
 متعلق مقدم تقول
الواحد والاثنين إلى تسع مع "عشرون" تقول في المميز
 متعلق متنهما حال
 المذكر: ثلاثة وعشرون رجلاً وأربعة وعشرون رجلاً،
 بتأنيث الجزء الأول
 وفي المميز المؤنث: ثلاث وعشرون امرأة وأربع وعشرون
 امرأة، بذكر الجزء الأول
 امرأة، وعلى هذا القياس إلى تسع وتسعين.

مع عشرون: مع مضاف، عشرون معطوف عليه، داو حرف عطف، أخوات مضاف، هـ
 مضاف اليه، مضاف إليه سے مل کر معطوف، معطوف معطوف عليه ملکر ذوالحال، إلى
 تسعين متعلق متنهما حال، حال ذوالحال مل کر مضاف اليه ہو امع کا، مضاف مضاف اليه مل کر
 مفعول فيه ہوا، تركيب اپنے متعلق اور مفعول فيه سے مل کر مضاف اليه ہو اطريق کا، طريق
 اپنے مضاف اليه سے مل کر مبتداء، على سبيل العطف متعلق ثابت ہو کر خبر، باقی ظاہر ہے۔
 غير الواحد إلخ: سب مضاف مضاف اليه مل کر ذوالحال۔

نقشه اعدادِ ممیز

نمبر	قاعدہ	مثالیں	
۱	اُحد او راثنان کو جب عشر کے ساتھ مرکب کیا جائے تو اگر تمیز مذکور ہے تو دونوں جزو مذکور لائے جائیں گے۔	اُحد عَشَرَ رجلاً اُحد عَشَرَ مسجداً اُحد عَشَرَ بَاباً	
	اگر تمیز موئث ہے تو دونوں جزو موئث لائے جائیں گے۔	اُحدی عَشرَةَ امرأةً اُحدی عَشرَةَ مَدْرَسَةً اُحدی عَشرَةَ رسَالَةً	اُشتَتا عَشَرَةَ خَادِمَةً اُشتَتا عَشَرَةَ مَدْرَسَةً اُشتَتا عَشَرَةَ سَمَكَةً
	اُحد او راثنان کے علاوہ تسع تک جو عدد عشر کے ساتھ ملایا جائے تو اگر تمیز	ثَلَاثَةَ عَشَرَ رجلاً أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَرَسًا ^۱ خَمْسَةَ عَشَرَ خَادِمًا	سبعة عَشَرَ كِتاباً ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَيْتَا ^۲ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينارًا ^۳

	سِتَّةَ عَشَرَ مَسْجِدًا	مذکر ہوگی تو پہلا جزو موئش طایا جائے گا اور دوسرانہ کر۔
۲	ثَلَاثَ عَشَرَةَ امْرَأَةً أَرْبَعَ عَشَرَةَ خَادِمَةً خَمْسَ عَشَرَةَ شَاهَةً سِتَّ عَشَرَةَ نَاقَةً	اگر تمیز موئش ہے تو پہلا جزو مذکر لائیں گے اور دوسرا موئش۔
۳	أَحَدُ وَعِشْرُونَ رِجَالًا أَحَدُ وَثَلَاثُونَ طِفَالًا أَحَدُ وَارْبَعُونَ خَادِمًا ^١ أَحَدُ وَخَمْسُونَ فَرَسًا	اُنہاں اور عشروں، ثلاثوں، اربعوں، خمسوں، ستوں، سبعون، ثمانوں، تسعون کے ساتھ طایا جائے تو اگر تمیز مذکر ہوگی تو پہلا جز مذکر لایا جائے گا۔

اثنان وستون ناقةً اثنان وسبعون مدرسةً اثنان وثمانون قبيلةً اثنان وتسعون سمكةً	إِحْدَى وَعَشْرُونَ امْرَأَةً إِحْدَى وَثَلَاثُونَ رِسَالَةً إِحْدَى وَأَرْبَعُونَ خَادِمَةً إِحْدَى وَخَمْسُونَ جَارِيَّةً	اگر تمیز موئش ہے تو پہلا جزو موئش لامیں گے۔
ستة وعشرون مسجداً سبعة وعشرون كتاباً ثمانية وعشرون بيتاً تسعة وعشرون ديناراً	ثلاة وعشرون رجالاً أربعة وعشرون فرساً خمسة وعشرون خادماً ستة وعشرون ناقةً	احد او اثنان کے علاوہ تسع تک جو عدو عشرون وغیرہ کے ساتھ ملایا جائے تو پہلا جزو موئش لایا جائے گا اور دوسرا مذکور۔
سبع وعشرون مدرسةً ثمان وعشرون رسالةً تسعة وعشرون سمكةً	ثلاث وعشرون امرأةً أربع وعشرون خادمةً خمس وعشرون جاريّةً ست وعشرون ناقةً	اگر تمیز موئش ہے تو پہلا جزو مذکر لامیں گے۔

والثاني: كم، معناه عدد مبهم، هو على نوعين، إحداهما:
متدا خبر موصوف صفت

استفهامية، مثل: كم رجلاً ضربته.

خبر مميز باعتراف متدا

والثاني: خبرية، مثل: كم عندي رجالاً.

والثالث: كأين، وهو عدد مبهم، مثل: كأين رجالاً

لقيت، وقد يكون متضمناً لمعنى الاستفهام، مثل: كأين فعل ناقص متعلق متضمناً
رجالاً عندك.

والرابع: كذا، وهو عدد مبهم، ولا يكون متضمناً لمعنى
الاستفهام، مثل: عندي كذا درهماً.

كم رجلاً ضربته: كتنے مرد ہیں کہ تو نے ان کو مارا۔

كم عندي رجالاً: [مضاف بامضاف اليه ظرف فعل ثبت کا] میرے پاس بہت آدمی
ہیں۔ كأين: کاف تشبیہ اور ایسے مرکب ہے لیکن اس سے عدد مسموم مراد ہے معنی ترکیبی
مراد نہیں۔ كأين رجالاً لقيت: بہت مرد ہیں کہ میں ان سے ملا۔ متضمناً: متعلق سے مل
کر خبر۔ كأين رجالاً عندك: تیرے پاس کتنے مرد ہیں؟ كذا: یہ کاف تشبیہ اور ذا اسم اشارہ
سے مرکب ہے لیکن مراد اس سے عدد مسموم ہے نہ کہ معنی ترکیبی۔

مثل عندي اخ: مثل مضاف، عدد مضاف، ی مضاف اليه، مضاف مضاف اليه مل کر ظرف
ہوا فعل ثبت مخدوف کا، ثبت فعل اپنے فاعل ہو اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر
مقدم ہوئی، کذا ممیز درہماً تیز، ممیز تیز مل کر متداً مؤخر ہوئی۔

النوع التاسع

أسماء تسمى أسماء الأفعال، وهي تسعه: ستة منها موصوف

موضوعة للأمر الحاضر، وتنصب الاسم على المفعولية موصوف صفت مفعول به متعلق تنصب خبر

أحدها: رويد، فإنه موضوع **لأمهل**، مثل: رويد زيداً أي مفسر خبر إن

أمهل زيداً. وثانيها: بله، فإنه موضوع **لـ"دع"**، مثل: مفسر خبر إن

بله زيداً أي دع زيداً. وثالثها: دونك، فإنه موضوع مفسر مبتدأ خبر

لـ"خذ"، مثل: دونك زيداً أي خذ زيداً. ورابعها: متعلق موضوع مفسر مفسر مبتدأ خبر

عليك، فإنه موضوع **لـ"لزم"**، مثل: عليك زيداً، أي مفسر

الزم زيداً. وخامسها: حيهل، فإنه موضوع **لـ"ait"**، مفسر

مثل: حيهل الصلاة، أي ايت الصلاة. وسادسها: ها، مفسر مبتدأ

فإنه موضوع **لـ"خذ"**، مثل: ها زيداً أي خذ زيداً، مفسر

تسمى: ضمير هي مفعول مالم يسم فاعله. **أسماء الأفعال**: مضارب باضاف اليه مفعول ثانٍ.

ستة إيج: تركيب: ستة ذوالحال، من جار، ها مجرور، جار مجرور ملكر متعلق كائناً كـ، كائناً اپنے متعلق سے مل کر حال، حال ذوالحال مل کر مبتدأ، موضوعة اسم مفعول، لـ جار، الأمر موصوف، الحاضر صفت، موصوف صفت سے ملکر مجرور ہوا جار کا، جار مجرور ملكر متعلق ہوا موضوعة کـ، موضوعة اپنے متعلق سے ملکر خبر ہوئی مبتدائی، باقی ظاہر ہے۔

ولا بدّ لهذه الأسماء من فاعل، وفاعلها الضمير المخاطب
 المستتر فيها. وثلاثة منها موضوعة للفعل الماضي، وترفع
 متعلق المستتر ذوالحال متعلق كائنة حال خبر متعلق موضوعة
 الاسم بالفاعلية. أحدها: هيئات، مثل: هيئات زيد أي
 مبنياً خبر مفسر مبنياً مفسر
 بعد زيد. وثانيها: سرعان، مثل: سرعان زيد أي سرع زيد.
 مبنياً خبر مفسر مبنياً مفسر
 وثالثها: شتان، مثل: شتان زيد وعمرو أي افترق زيد
 مبنياً مبنياً
 وعمرو.

النوع العاشر

موصوف باصفت مبنياً

الأفعال الناقصة، وهي تدخل على الجملة الاسمية، فترفع
 موصوف باصفت خبر جار مجرور متعلق تدخل
 الجزء الأول وتنصب الجزء الثاني، وهي ثلاثة عشر فعلاً
 موصوف صفت ضمير هي فاعل مميز بـأي خبر
 الأول: كان، وهي تحيى على معنيين، ناقصة وتمامة،
 مبدل منه
 فالناقصة تحيى على معنيين، أحدهما: أن يثبت خبرها
 مفعول به

ولا بد إلخ: لأنني جنس چاہتا ہے اسم اور خبر کو، بد اس کا اسم، لام جار، هذه اسم اشاره،
 الأسماء مشار اليه، اشاره مشار اليه مل کر مجرور ہوا، جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابت یا موجود کا،
 من جار، فاعل مجرور، جار بـ مجرور متعلق ہوا ثابت کے، ثابت اپنے متعلقوں سے مل کر خبر ہوئی،
 لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسیہ خریہ ہوا۔ ناقصة وتمامة: معطوف عليه بـ معطوف بدل۔

لامسها في الزمان الماضي، سواء كان ممكناً الانقطاع،
متصل بثت غير مقدم
مثل: كان زيد قائماً، أو ممتنعاً الانقطاع، مثل: كان الله
عليماً حكيمـاً. وثانيهما: أن يكون بمعنى صار، مثل: كان
الـفـقـيرـ غـنـيـاً. والتـامـةـ تـتمـ بـفـاعـلـهـاـ، مثل: كان زـيدـ أـيـ ثـبتـ
زيـدـ. والـثـانـيـ صـارـ، وـهـيـ لـلـأـنـتـقـالـ، مثل: صـارـ زـيدـ غـنـيـاـ.
والـثـالـثـ أـصـبـحـ. والـرـابـعـ أـضـحـىـ. والـخـامـسـ أـمـسـىـ،
نـحـوـ أـصـبـحـ زـيدـ غـنـيـاـ، وـأـضـحـىـ زـيدـ حـاكـمـاـ، وـأـمـسـىـ زـيدـ
قـارـيـاـ، وـهـذـهـ الشـلـاثـةـ قدـ تـكـونـ بـعـنـيـ صـارـ، مثل: أـصـبـحـ
الفـقـيرـ غـنـيـاـ، وـأـمـسـىـ زـيدـ كـاتـبـاـ، وـأـضـحـىـ المـظـلـمـ منـيـراـ.
اسم أضحي خبر ضمير هي اسم مضاد إلى مضاد إليه

سواء کان ایخ: [برابر ہے کہ وہ خبر ایسی ہو کہ اس کا قطع ہونا ممکن ہو] تقدیری عبارت یوں ہے: کون الخبر ممکن الانقطاع أو ممتنع الانقطاع سواء، اس صورت میں سواء کا خبر ہونا بالکل ظاہر ہے اس لئے عبارت مندرجہ میں بھی سواء کو خبر مقدم کہیں گے، کان فعل ناقص، اس میں ضمیر راجح طرف خر کے، وہ اس کا اسم، ممکن الانقطاع مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، ممتنع الانقطاع مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف، معطوف با معطوف علیہ خبر ہوئی کان کی، کان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاؤیل مفرد مبتدا موتخر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمہ خبر ہے ہوا۔

أو ممتنع الانقطاع: يا إيمى هو كه اس کا قطع ہونا منع ہو۔ وهذا الثالثة: اشاره با
مشارالیه مبتداء۔

والسادس: ظل. والسابع: بات، وهما لاقتان مضمون الجملة
 مبتدأ خبر مضاف مضاف إليه مضاف مضاف إليه
 بالنهاي والليل، مثل: ظل زيد كاتباً أي حصلت كتابته
 متعلق اقتراح تفسير مفسر اسم متعلق حصل
 في النهار، وبات زيد نائماً أي حصل نومه في الليل، وقد
 متعلق حصلت مفسر اسم متعلق حصل
 تكونان بمعنى صار، مثل: ظل الصبي بالغاً، وبات الشاب
 اسم خبر متعلق ثابتة
 شيئاً. والثامن: ما دام، وهي لتوقيت شيء بمدة ثبوت
 خبر متعلق ثبوت فعل ناقص اسم خبر جمله اسمية خبريه
 خبرها لاسمها، نحو: اجلس ما دام زيد جالساً، وزيد قائم
 متعلق ثبوت فعل ناقص اسم خبر جمله اسمية خبريه
 ما دام عمرو قائماً. والتاسع: ما زال. والعالشر: ما برح.
 اسم خبر مبتدأ خبر
 والحادي عشر: ما انفك. والثاني عشر: ما فتئ، وكل
 مبتدأ خبر
 واحد من هذه الأفعال الأربعة لدوام

متعلق ثابت خبر

وكل واحد إن: [ذو الحال سے مل کر مبتداء] او حرف استئناف، كل مضاف، واحد
 مضاف اليه، مضاف ومضاف اليه مل کر ذو الحال، من حرف جار، هذه اسم اشاره، الأفعال
 موصوف، الأربعة صفت، صفت موصوف مل کر مجرور هوا، جار مجرور مل کر متعلق ہوا کائنات
 کے، کائنات اپنے متعلق سے مل کر حال ہوا، حال ذو الحال مل کر مبتداء، ل جار، دوام مضاف،
 ثبوت مضاف اليه مضاف، خبر مضاف اليه مضاف ها مضاف اليه سے مل کر مضاف اليه
 ثبوت، ل جار، اسم مضاف، ها مضاف اليه مضاف، مضاف اليه مل کر مجرور هوا، جار مجرور مل
 کر متعلق ہوا ثبوت کے، مذظرف، قبل فعل از سمع، اس میں ضمیر هو فاعل، ه مفعول به،
 فعل با فاعل و مفعول به سے مل کر مضاف اليه فعلیہ ہو کر ظرف ہوا ثبوت کا، ثبوت اپنے مضاف اليه
 و متعلق و ظرف سے مل کر مضاف اليه ہوا دوام کا، مضاف مضاف اليه مل کر مجرور هوا، جار
 مجرور مل کر ثابت کے متعلق ہو کر خبر ہوئی، مبتدأ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

ثبوت خبرها لاسمها مذ قبله ويلزمه النفي، مثل: ما زال زيد عالماً، وما برح عمرو صائماً، وما فتئ بكر فاضلاً، اسم خبر اسم خبر اسم خبر اسم خبر اسم خبر وما انفك سعيد عاقلاً. والثالث عشر: ليس، وهي لنفي متعلق ثابتة مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه.

النوع الحادي عشر

أفعال المقاربة، وهي أربعة، الأول: عسى، وعمله على نوعين، الأول: أن يرفع الاسم وينصب الخبر، نحو: عسى زيد أن يخرج. والثاني: أن يرفع الاسم وحده، مثل: عسى أن يخرج زيد. والثاني: كاد، مثل: كاد زيد يجيء. والثالث: كرب، وهو يرفع الاسم وينصب الخبر، وخبره يجيء فعلاً مضارعاً بغير أن دائماً، نحو: كرب زيد يخرج. والرابع: أوشك، وهو يرفع الاسم وينصب الخبر، وخبره

أفعال المقاربة: مضاف باضاف اليه خبر. وينصب الخبر: ويكون خبره فعلاً مضارعاً مع أن. عسى زيد إلخ: أي قرب زيد الخروج. أن يخرج: جملة فعلية هو كر خبر عسى. وحده: [مضاف باضاف اليه حال] ويكون اسمه فعلاً مضارعاً مع أن. أن يخرج زيد: جملة فعلية هو كرتاويل مفرد فاعل عسى. دائماً: ظرف زمان يجيء أي زماناً دائماً.

فعل مضارع مع أن وبغير أن، مثل: أوشك زيد أن
 صفت أول معطوف عليه
 يجيء، أو يجيء.

النوع الثاني عشر

أفعال المدح والذم، وهي أربعة، الأول: نعم، وهو فعل مدح، مثل: نعم الرجل زيد. والثاني: بئس، وهو فعل مذموم، مثل: بئس الرجل زيد. والثالث: ساء، وهو مرادف لمذموم، مثل: ساء الرجل زيد. والرابع: حب، وهو مرادف لنعم وفاعله ذا، نحو: حبذا زيد.

النوع الثالث عشر

موصوف صفت

أفعال القلوب، وهي تدخل على المبتدأ والخبر، وتنصبهما

بغير أن: متعلق ثابت هو كر معطوف، معطوف عليه با معطوف صفت ثانٍ.
 نعم الرجل زيد: [فعل با فاعل خبر مقدم] اصحابه زيد.
 فعل، ذا فاعل، فعل فاعل مل كر جملة انشائية خبر مقدم هوئي، زيد مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملة اسميّة ہوا۔
أفعال القلوب: [مضارب بامضار إليه خبر] ان کو افعال قلوب اس لئے کہتے ہیں کہ ان کا تعلق دل سے ہے، ظاہری اعضاء کو ان میں کچھ دخل نہیں، کیونکہ کسی بات کا یقین کرنا یا کسی میں شک کرنا دل کا کام ہے نہ کہ ہاتھ پاؤں کا، ان کو افعال الشك واليقين بھی کہتے ہیں، کیونکہ بعض ان میں سے شک کے لئے ہیں اور بعض یقین کے لئے۔ المبتدأ والخبر: معطوف عليه با معطوف مجرور۔

معاً، وهي سبعة، ثلاثة منها للشك، وثلاثة منها للحقيقة،
 طرف تنصب ذوا الحال متعلق كائنة حال
 واحد منها مشترك بينهما، أما الثلاثة الأولى: فحسبت
 طرف مشترك موصوف بـ صفت مبتدأ بـ معطوف خبر
 وظننت وخلت، مثل: حسبت زيداً فاضلاً، وظننت بـ كرراً
 فعل باـ فاعل مفعول أول مفعول ثانٍ
 نائماً، وخلت حالداً قائماً.

وأما الثلاثة الثانية: فلعلت ورأيت ووجدت، مثل:
 لعلت زيداً أميناً، ورأيت عمروً فاضلاً، ووجدت البيت
 رهيناً. والواحد المشترك بينهما هو زعمت، مثل: زعمت
 موصوف بـ صفت مبتدأ طرف المشترك
 الله غفوراً، فهو للحقيقة، وزعمت الشيطان شكوراً، فهو
 مبتدأ متعلق ثابت خبر
 للشك. وفي هذه الأفعال لا يجوز الاقتصر على أحد
 مضارف متعلق مقدم لا يجوز
 المفعولين، وإذا توسلت بين
 مضارف إليه

واحد: ذوا الحال باـ حال مبتدأ هو زعمت: جملة اسمية هو كـ خبرـ لا يجوز الاقتصر إلـخ: اـسـ
 لـئـهـ كـ وـهـ دـوـنـوـنـ اـسـمـ مـشـلـ اـيـكـ اـسـمـ كـ هـيـنـ، كـيـونـكـهـ اـنـ دـوـنـوـنـ كـاـ مـضـمـونـ وـرـحـقـيـقـتـ مـفـعـولـ بـهـ،
 چـتـاـچـهـ عـلـمـتـ زـيـداـ فـاضـلـاـ كـ مـعـنـيـ هـيـنـ عـلـمـتـ فـضـلـ زـيـدـ، پـسـ اـگـرـ اـنـ دـوـنـوـنـ مـيـنـ سـےـ اـيـكـ
 حـذـفـ كـرـدـيـاـجـائـےـ توـيـاـيـكـ كـلـمـهـ كـ بـعـضـ بـزـوـكـاـحـذـفـ كـرـنـاـهـوـكـ جـسـ سـےـ جـمـلـهـ نـاقـصـ ہـوـ جـائـےـ گـاـ
 وإذا توسلت: [اور جـبـکـهـ وـاقـعـ ہـوـيـهـ اـفـعـالـ اـپـنـےـ مـفـعـولـوـنـ کـ درـمـیـانـ یـاـ آخرـ مـیـںـ اـنـ دـوـنـوـنـ
 مـیـںـ سـےـ توـجـازـ ہـےـ باـطـلـ كـرـنـاـانـ کـ عملـ کـاـ] تـرـكـيـبـ: إذا حـرـفـ شـرـطـ، توـسـلـتـ فـعـلـ، ضـمـيرـ هـيـ
 فـاعـلـ، بـيـنـ مـضـارـفـ مـفـعـولـاـهـ، يـهـ سـبـ مـضـارـفـ مـضـارـفـ إـلـيـهـ مـلـ كـرـ مـفـعـولـ فـيـهـ ہـوـاـ
 توـسـلـتـ کـاـ، توـسـلـتـ فـعـلـ اـپـنـےـ فـاعـلـ وـمـفـعـولـ فـيـهـ سـےـ مـلـ كـرـ جـمـلـهـ فـعـلـيـهـ ہـوـ كـرـ مـعـطـوفـ عـلـيـهـ =

مفعوليهما أو تأثرت عنهما حاز إبطال عملها، مثل: زيد
 ظنت قائماً، وزيداً ظنت قائماً، وزيد قائم ظنت،
 وزيداً قائماً ظنت. وإذا زيدت الهمزة في أول علمت
 شرط فعل مجهول نائب فاعل
 ورأيت صارا متعددين إلى ثلاثة مفاعيل، نحو: أعلمت
 مفعول ثان
 زيداً عمروًّا فاضلاً، وأرأيت عمروًّا حالداً، وأنبا ونبأ
 مفعول أول مفعول ثالث فعل متعددي
 وأخبر وخبر أيضاً تعددى إلى ثلاثة مفاعيل.
 آض أيضاً

أاما القياسية فسبعة عوامل

الأول منها: الفعل مطلقاً, وهو يرفع الفاعل، نحو: قام زيد،
مثال فعل لازم خبر مبتدأ
ووضرب زيد عمروًّا, وأما إذا كان متعدياً فينصب المفعول
مثال فعل متعددي

= ہوا، اور حرف عطف، تأخرت فعل، ضمیر ہی فاعل، عن حرف جار، هما مجرور، جار مجرور
 مل کر متعلق ہو اتاختہ کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
 معطوف ہوا، معطوف معطوف علیہ مل کر شرط ہوئی۔ جاز فعل، باطال مضاف، عمل مضاف
 الیه مضاف، ها مضاف الیہ، یہ سب مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہوا جاز کا۔ جاز فعل اپنے
 فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا ہوئی، شرط با جزا جملہ شرطہ ہوا۔

**الأول منها إيج: تركيب: الأول ذو الحال، من حرف جار، ها مجرور، جار مجرور مل كمتعلق
كائناً كه هو كر حال هوا، ذو الحال حال مل كرميدها، الفعل ذو الحال مطلقاً حال مل كر خبر هونى،
مبتدأ خبر مل كر جمله اسمية خبرية هوا. الفعل مطلقاً: سواء كان لازماً أو متعدياً، ماضيا
كان أو مضارعاً، أمراً كان أو نهياً.**

به أيضًا، مثل: ضرب زيد عمروا. والثاني: المصدر، وهو اسم حدث اشتق منه الفعل، وإنما سمى مصدرًا؛ لصدور الفعل عنه ويعمل عمل فعله، فإن كان فعله لازمًا فيرفع مضاف باضاف إليه شرط الفاعل فقط، مثل: أعجبني قيام زيد، وإن كان متعديا فيرفع الفاعل وينصب المفعول به، نحو: أعجبني ضرب زيد عمرواً. والثالث: اسم الفاعل، وهو كل اسم اشتق

وهو اسم إلخ: [و] نام هيئٌ چیز کے پیدا ہونے کا کہ نکلا جاتا ہے اس سے فعل [تركیب]: واو عاطفہ، هو مبتداء، اسم مضاف، حدث موصوف، اشتق فعل مجرور، من حرف جار، ها ضمیر مجرور، جار مجرور متعلق ہوا اشتق کے، الفعل مفعول مالم یسم فاعل، فعل اپنے مفعول مالم یسم فاعلہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت ہوئی، حدث موصوف اپنے صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی، باقی ظاہر ہے۔

إنما سمى إلخ: تركیب: واو متنافہ، إنما گلمہ حصر، سمی فعل مجرور از تعییل، ضمیر هو نائب فاعل، مصدرًا مفعول ثانی، ل جار، صدور مضاف، الفعل مضاف الیہ، عن جار، ه ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا صدور کے، صدور اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور ہوا، جار مجرور مل کر متعلق ہوا سمی کے، فعل اپنے مفعول مالم یسم فاعلہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔

وهو كل اسم إلخ: تركیب: واو عاطفة، هو مبتدأ، كل مضاف، اسم موصوف، اشتق فعل مجرور، اس میں ضمیر هو نائب فاعل، من جار، فعل مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اول ہوا اشتق کا، ل جار، ذات مضاف، من اسم موصول، قام فعل، ب جار، ه مجرور، جار مجرور متعلق ہوا =

من فعل لذات من قام به الفعل، وهو يعلم عمل فعله كالمصدر، مثل: زيد ضارب غلامه عمر وَأَمْ. والرابع: اسم فاعل مفعول به المفعول، وهو كل اسم اشتق لذات من وقع عليه الفعل، وهو يعلم عمل فعله المجهول، فيرفع اسمًا واحدًا بأنه قائم موصوف صفت بمعنى الذي يعمد به المفعول.

والخامس: الصفة المشبهة، وهي مشتقة من اللازم دالة صفت موصوف صفت غير أول متعلق مشتبه على ثبوت مصدرها لفاعلها على سبيل الاستمرار متعلق ثبوت

=قام كـ، الفعل فاعل، قام فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہوا، موصول با صلہ مضاف الیہ ہو اذات کا، ذات مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، جار مجرور مل کر متعلق ثانی اشتق کا، اشتق فعل اپنے مفعول مالم یسم فاعلہ اور دونوں متعلقوں سے مل کر صفت ہوئی، موصوف صفت ملکر مضاف الیہ ہوا کل کا، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

فيرفع اسمًا إلخ: تركيب: ف حر تفريع، يرفع فعل مضارع معروف، ضمير هو اسما فاعل اسمًا موصوف، واحدًا صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول ہوا، ب جار، ان حرث مشبه بالفعل، ه ضمير اسم قائم اسم فاعل، مقام مضاف، فاعل مضاف الیہ مضاف، ه مضاف الیہ، یہ سب مضاف مضاف الیہ مل کر ظرف ہو اقائم کا، قائم اپنے ظرف سے مل کر خبر ہوئی ان کی، ان اپنے اسم وخبر سے ملکر جملہ فعلیہ بتاویل مفرد ہو کر مجرور ہوا جار کا، جار مجرور ملکر متعلق ہوا يرفع كـ، يرفع فعل اپنے فاعل و مفعول و متعلق سے ملکر جملہ فعلیہ ہوا۔
بأنه: متعلق يرفع ظرف قائم۔ غلامه: مفعول مالم یسم فاعلہ۔

والدّوام، وهي ت عمل عمل فعلها من غير اشتراط زمان،
مضاف إليه مضاف

مثـلـ: جاعـيـ رـجـلـ حـسـنـ غـلامـهـ. والـسـادـسـ: المـضـافـ،
فـاعـلـ حـسـنـ مـوـصـوفـ

وـهـوـ كـلـ اـسـمـ أـضـيـفـ إـلـىـ اـسـمـ آـخـرـ، فـيـجـرـ الـأـوـلـ الثـانـيـ
موـصـوفـ مـتـعلـقـ أـضـيـفـ ذـوـ الـحـالـ

مـجـرـداـ عـنـ الـلـامـ وـالـتـنـوـينـ وـمـاـ يـقـومـ مـقـامـهـ مـنـ نـوـنـيـ التـشـيـةـ
حـالـ مـتـعلـقـ مـجـرـداـ

وـالـجـمـعـ لـأـجـلـ الإـضـافـةـ، مـثـلـ: غـلامـ زـيدـ. وـالـسـابـعـ:

من غير اشتراط زمان إلخ: كـيـونـكـهـ صـفـتـ مـشـبـهـ مـيـںـ مـصـدـرـيـ مـعـنـيـ هـمـیـشـہـ سـےـ ثـابـتـ ہـوـتـےـ
ہـیـںـ نـہـ کـہـ حـادـثـ، فـاـفـہـمـ. فـیـجـرـ الـأـوـلـ إـلـخـ: تـرـكـیـبـ: فـ بـیـانـیـہـ، يـحـرـ فـعـلـ مـضـارـعـ، الـأـوـلـ
ذـوـ الـحـالـ، الـثـانـیـ مـفـعـولـ، مـجـرـداـ اـسـمـ مـفـعـولـ، عـنـ جـارـ، الـلـامـ مـعـطـوـفـ عـلـیـہـ، وـاـوـ حـرـفـ عـطـفـ،
الـتـنـوـينـ مـعـطـوـفـ عـلـیـہـ، وـاـوـ حـرـفـ عـطـفـ، مـاـ اـسـمـ مـوـصـولـ، يـقـومـ فـعـلـ مـضـارـعـ، هـوـ ضـمـيرـ
فـاعـلـ، مـقـامـ مـضـافـ، ۵ـ مـضـافـ الـیـہـ، مـضـافـ مـضـافـ الـیـہـ مـلـ کـرـ ظـرـفـ ہـوـاـ، يـقـومـ فـعـلـ اـپـنـےـ فـاعـلـ
اوـرـ ظـرـفـ سـےـ مـلـ کـرـ جـمـلـہـ فـعـلـیـہـ ہـوـاـ مـوـصـولـ کـاـ، مـوـصـولـ صـلـہـ مـلـ کـرـ مـبـینـ ہـوـاـ، مـنـ جـارـ،
نـوـنـيـ مـضـافـ، التـشـيـةـ مـعـطـوـفـ عـلـیـہـ، وـاـوـ حـرـفـ عـطـفـ، الـجـمـعـ مـعـطـوـفـ، مـعـطـوـفـ مـعـطـوـفـ عـلـیـہـ مـلـ
کـرـ مـضـافـ الـیـہـ ہـوـاـ، مـضـافـ مـضـافـ الـیـہـ مـلـ کـرـ مجرـورـ ہـوـاـ، جـارـ مجرـورـ مـلـ کـرـ بـیـانـ مـلـ
کـرـ مـعـطـوـفـ ہـوـاـ التـنـوـينـ کـاـ، التـنـوـينـ مـعـطـوـفـ عـلـیـہـ اـپـنـےـ مـعـطـوـفـ سـےـ مـلـ کـرـ مـعـطـوـفـ ہـوـاـ الـلـامـ
مـعـطـوـفـ عـلـیـہـ کـاـ، الـلـامـ مـعـطـوـفـ عـلـیـہـ اـپـنـےـ دـوـنـوـںـ مـعـطـوـفـاتـ سـےـ مـلـ کـرـ مجرـورـ ہـوـاـ، جـارـ مجرـورـ مـلـ کـرـ
مـتـعلـقـ ہـوـاـ مـجـرـداـ کـےـ، مـجـرـداـ اـسـمـ مـفـعـولـ اـپـنـےـ مـتـعلـقـ سـےـ مـلـ کـرـ حـالـ ہـوـاـ، ذـوـ الـحـالـ حـالـ سـےـ
مـلـ کـرـ فـاعـلـ ہـوـاـ يـحـرـ کـاـ، لـامـ حـرـفـ جـارـ، أـجـلـ مـضـافـ، الإـضـافـةـ مـضـافـ الـیـہـ، مـضـافـ مـضـافـ الـیـہـ
مـلـ کـرـ مجرـورـ ہـوـاـ، جـارـ مجرـورـ مـلـکـرـ مـتـعلـقـ ہـوـاـ يـحـرـ کـاـ، يـحـرـ فـعـلـ اـپـنـےـ فـاعـلـ وـمـفـعـولـ وـمـتـعلـقـ سـےـ
مـلـ کـرـ جـمـلـہـ فـعـلـیـہـ ہـوـاـ

الاسم التام، وهو كل اسم تم فاستغنى عن الإضافة بأن يكون في آخره تنوين، أو ما يقوم مقامه من نوني التثنية والجمع، أو يكون في آخره مضاد إليه، وهو ينصب اسم يكون اسم يكون النكرة على أنها تمييز له، فيرفع منه الإبهام، مثل: عندي مفعول به رطل زيتاً، ومنوان سمناً، وعشرون درهماً، ولني ملؤه عسلاً. اسم تام اسم تام مميز مميز

أما المعنوية فمنها عددان

أحد هما: العامل في المبتدأ والخبر، وهو الابتداء، نحو: زيد مبتدأ خبر متعلق العامل منطلق. وثانيهما: العامل في الفعل المضارع، مثل: زيد يعلم. مضاد مضاد إليه

وهو كل اسم إنج: تركيب: هو مبتدأ، كل مضاد، اسم موصوف، ثم فعل، اس مين ضمير هو فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت ہوئی، موصوف باصفت مضاد اليہ ہوا کل کا، باقی ظاہر ہے۔ مثل عندي رطل إنج: تركيب: مثل مضاد، عند مضاد، ی تکلم مضاد اليہ، مضاد مضاد اليہ ظرف ثابت مقدر کا ہو کر خبر مقدم ہوئی، رطل اسم تام مميز، زيتاً تيز، مميز تيز مل کر معطوف عليه ہوا، واو حرف عطف منوان مميز، سمناً تيز، مميز تيز مل کر معطوف، و حرف عطف، عشرون مميز، درهماً تيز، مميز تيز مل کر معطوف، معطوف معطوف عليه مل کر معطوف ہوا، معطوف معطوف عليه مل کر مبتدأ آخر، مبتدأ آخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاد اليہ ہوا مثل کا، باقی ظاہر ہے۔

لي ملؤه عسلا: تركيب: ل جار، ی متکلم مجرور، جار مجرور متعلق ثابت کے ہو کر خبر مقدم، ملؤه مضاد مضاد اليہ سے ملکر مميز، عسلاً تيز، مميز تيز مل کر مبتدأ، باقی ظاہر ہے۔

مَكْتَبَةُ الْبَشِّرِي

شَارِعُ الطَّبَاعَةِ وَالنَّسْخِ
جَمِيعُ شُرُورِ دِينِ اِسْلَامِيِّ الْمُهَاجِرَةِ (الْمَهْدَى) لِرَأْسِ التَّشْرِيفِ، بَكَاتِانَتِ

ملونة كرتون مقوى	مجلدة
شرح عقود رسم المفتني السراجي	الصحيح لمسلم
متن العقيدة الطحاوية الفوز الكبير	الموطأ للإمام مالك
تلخيص المفتاح	الهداية
مبادئ الفلسفة	تفسير البيضاوي
دروس البلاغة	تفسير الجلالين
تعليم المتعلم	شرح العقائد
هداية النحو (مع التمارين)	آثار السنن
المرقات	الحسامي
يساغوجي	ديوان المتنبي
عوامل النحو	نور الأنوار
المنهاج في القواعد والإعراب	شرح الجامي
ستطبع قريباً بعون الله تعالى	كتن الدقائق
ملونة مجلدة	نفحة العرب
الصحيح للبخاري	مختصر القدوري
	نور الإيضاح

Books in English

- Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1, 2, 3)
- Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)
- KeyLisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)
- Al-Hizb-ul-Azam (Large) (H. Binding)
- Al-Hizb-ul-Azam (Small) (Card Cover)

Other Languages

- Riyad Us Saliheen (Spanish) (H. Binding)
- Fazail-e-Aamal (German)
- Muntakhab Ahadis (German)
- To be published Shortly Insha Allah
- Al-Hizb-ul-Azam (French) (Coloured)

مکتبہ اللہ شری

شعبہ شوال مکمل
برہد ہری برعلیٰ جوہری شبل شریست (رحمۃ اللہ علیہ) پاکستان

درس نظامی اردو مطبوعات	
نورانی قادہ	سورہ ایں
بغدادی قادہ	رحانی قادہ خیر الاصول (اصول المدیث)
تفیر عثمانی	اعجاز القرآن الانبیاۃ المفیدۃ
القیٰ العالم	بيان القرآن میہن الاصول
سیرت سید الکوئین خاتم النبیین	حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم فوائد کیمیہ
امت مسلم کی ماں	غلقاے راشدین تاریخ سلام
رسول اللہ ﷺ کی صحیحیت	نیک یہیا علم الخوا
اکرم اسلامیں / حقوق العبادی فلکر کیمیہ	تبیغ دین جوامع الکلم
حیلہ اور بہانے	علمات قیامت صرف میر
اسلامی سیاست	بڑاء الاعمال تیسیر الایوب
آواب معیشت	علیکم رحمتی بہشی گوہر
حسن حصین	منزل تہییہ المبتدی
الحزب الاعظم (ہفتواں مکمل)	الحزب الاعظم (ماہوار مکمل) فارسی زبان کا آسان قادہ
زاد السعید	اعمال قرآنی کریما
مسنون دعا مکیں	مناجات مقبول تیسیر المبتدی
فضائل صدقات	فضائل اعمال کلید جدید عربی کا معلم (اول تا چہارم)
فضائل درود شریف	اکرام مسلم آداب المعاشرت
فضائل حج	فضائل علم تعلیم الدین
جو اہر الحدیث	فضائل امت محمدیہ لسان القرآن (اول تا سوم)
آسان نماز	منتخب احادیث سیر صحابیات
نمایز مدل	نمایز حنفی مفاتیح لسان القرآن (اول تا سوم)
معلم انجان	آنیئہ نماز بہشی زیور (مکمل)
خطبات الاحکام / جماعتات العام	روضۃ الادب
دائی نقشہ اوقات نماز: کراچی، سنده، پنجاب، خیبر پختونخواہ	دیگر اردو مطبوعات
	قرآن مجید پندرہ سطری (عائشی) قیچی پارہ
	پیغمبر سورہ (درستی) عم پارہ